

علم و هنر کیمیاست

گویند عارفان هنر و علم، کیمیاست
وان مس که گشت همسر این کیمیا، طلاست
تو مردمی و دولت مردم فضیلت است
تنها وظیفه تو همی نیست خواب و خاست
بشناس فرق درست ز دشمن به چشم عقل
مفتون مشو که در پس هر چهره، چهره هاست
جل، شلخه ایست، میوه آن علم و فضل و رای
در شاخه ای بُنگر که چه خوشنگ میوه هاست
ای شاخ تازه رس که به گلشن دمیده ای
آن گلبنی که گل ندهد کمتر از گیاست
گر پند تلخ می دهمت، تُرش رو مباش
تلخی به یاد آر که خاصیت دواست
جان را هر آنکه معرفت آموخت مردم است
دل را هر آنکه نیک نگهداشت پادشاه است
(پروین اعتصامی)

فرهنگ

همسر : هم پله، هم پایه

مس : تانا

وظیفہ : فریضہ، قمذاری	دولت : ثروت
مفتون مشو : فریب نکھا	طلا : سونا، زر
شاخہ ایست : ایک اسک شاخ ہے	جان : روح
دمیدن : پھوٹنا	رأی : نظر، رائے
می دھمت : میں بچتے دیتا ہوں	گلبن : پھولوں سے بھری جھاڑی
شناس : پیچانو (شناختن مصدر سے فعل امر)	معرفت : شناسائی، پیچان
عارفان : جمع عارف، جو شخص حقائق کو سمجھنے والا ہو۔	عارفان : جمع عارف، جو شخص حقائق کو سمجھنے والا ہو۔
تومردی : تو انسان ہے، تو اشرف الخلوقات ہے۔	تومردی : تو انسان ہے، تو اشرف الخلوقات ہے۔
خواب و خاست : سونا جا گنا، (خوابیدن اور برخاستن سے)	خواب و خاست : سونا جا گنا، (خوابیدن اور برخاستن سے)
نگر : دیکھ (نگریستن: دیکھنا) سے نگر و مضارع	نگر : دیکھ (نگریستن: دیکھنا) سے نگر و مضارع
شاخ تازہ رس : وہ شاخ جو تازہ اُگی ہو	شاخ تازہ رس : وہ شاخ جو تازہ اُگی ہو
گیاست : گیاہ است (گیاہ: پودہ، جھاڑی)	گیاست : گیاہ است (گیاہ: پودہ، جھاڑی)
ترشو : صند خوشرو، ماتھے پر شکن ڈالنے والا	ترشو : صند خوشرو، ماتھے پر شکن ڈالنے والا
نیک نگہداشتیں : اچھی طرح سنجالنا، دیکھے بحال کرنا	نیک نگہداشتیں : اچھی طرح سنجالنا، دیکھے بحال کرنا
پادشاہست : (پادشاہ است) وہ بادشاہ ہے	پادشاہست : (پادشاہ است) وہ بادشاہ ہے
کیمیا : علم کیمیا۔ قدیم لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جس سے تابنے کو سونے میں تبدیل کیا جاسکتا ہے لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں مراد ایسی چیز جو ایک کم درجہ شے کو نہایت اعلیٰ درجے کی بنا دیتی ہے یعنی ایسا علم جو آدمی کو انسان بنادے۔	کیمیا : علم کیمیا۔ قدیم لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جس سے تابنے کو سونے میں تبدیل کیا جاسکتا ہے لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں مراد ایسی چیز جو ایک کم درجہ شے کو نہایت اعلیٰ درجے کی بنا دیتی ہے یعنی ایسا علم جو آدمی کو انسان بنادے۔

تمرین

۱- فارسی میں جواب دیجیے۔

۱- عارفان چہ می گویند؟

۲- دولت مردم چیست؟

۳- میوه شاخه جان چیست؟

۴- کدام شخص در حقیقت پادشاه است؟

۵- آخری تین اشعار کو سادہ فارسی تر میں لکھیں۔

۶- مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیے:

وظیفہ، دوست، دشمن، علم، فضیلت، معرفت

۷- شو، مگر، مباش کس قسم کے افعال ہیں۔ مندرجہ ذیل مصادر سے یہی افعال بنائیے اور ان کے
صیغہ بھی لکھیے:

گفتن، خواہیدن، مٹاختن، رسیدن، دادن، آوردن، آموختن